

ہم کیسے فرق کریں کہ یہ چیزیں اللہ عزوجل نے بنائیں اور یہ چیزیں آرٹیفیشل ہیں  
الحمد لله والصلوة والسلام على رسول الله

الاستفتاء: کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیان شرع متین اس مسئلہ کے بارے میں کہ  
ہم جانتے ہیں کہ ہر چیز اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے تو کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے  
گھر، کپڑے اور جوتے اللہ عزوجل نے بنائے ہیں اور ہم کیسے فرق کریں گے کہ یہ  
چیزیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہیں اور یہ چیزیں آرٹیفیشل ہیں؟

سائل: شریق فرام انگلینڈ

بسم الله الرحمن الرحيم

الجواب بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَالصَّوَابِ

اس میں کوئی شک نہیں کہ ہر چیز کا خالق اللہ عزوجل ہے مگر مناسب یہی ہے کہ  
اللہ تعالیٰ عزوجل کی طرف انہیں چیزوں کی نسبت کی جائے جن میں ڈائیرکٹلی  
(Directly) قدرت باری تعالیٰ کار فرما ہے اور جن چیزوں کو انسان نے بنایا اگرچہ  
اسے یہ قدرت بھی اللہ تعالیٰ نے ہی دی مگر مناسب یہی ہے کہ ان چیزوں کے بنانے  
کی نسبت انسان کی طرف ہی کی جائے۔ اور یہ ہرگز نہ کہا جائے کہ ہمارے جوتے  
اللہ عزوجل بناتا ہے کہ یہ جملہ اللہ عزوجل کی پاک بارگاہ میں بے ادبی ہے اگرچہ  
موچی کو جوتا بنانے کی قدرت دینے والا وہی خالق حقیقی ہے۔

وَاللَّهُ تَعَالَىٰ أَعْلَمُ وَرَسُوْلُهُ أَعْلَمُ عَزَّوَجَلَّ وَ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ

کتبہ ابو الحسن محمد قاسم ضیاء قادری

Date: 10-11-2017

**How can we differentiate whether Allāh Almighty directly created these things or indirectly?**

الحمد لله والصلوة والسلام على رسول الله

**QUESTION:**

**What do the scholars of the Dīn and muftīs of the Sacred Law state regarding the following issue: We know that Allāh Almighty is the Creator of everything, so can we say that Allāh Almighty made our houses, clothes, shoes, etc and how will we able to differentiate whether Allāh Almighty directly created these things or indirectly?**

Questioner: Shareeq from U.K.

**ANSWER:**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
الجواب بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَالصَّوَابِ

There is no doubt in the fact that Allāh Almighty is the Creator of everything, however what is appropriate is that one attributes only those things in which the direct Power of Allāh Almighty is in relation to. With regards to those things which human beings have made, though Allāh Almighty has given them this ability also, however what is appropriate is that the making of these things is attributed to mankind. It should never be said that Allāh Almighty makes our shoes, as this sentence is disrespectful in the Majestic Court of Allāh Almighty, even though the one who gave the ability to the shoemaker to make shoes is that very same True Creator ﷻ.

والله تعالى اعلم ورسوله اعلم صلى الله عليه وآله وسلم  
كتبه ابو الحسن محمد قاسم ضياء قادري

**Answered by Mufti Qasim Zia al-Qadri**

Translated by Haider Ali